



## Noble Quran الْقُرْآنُ الْحَكِيمُ

Urdu Translation (Shah Abdul Qadir) (حضرت شاہ عبدالقادر) اردو ترجمہ بمعہ عربی

### سورة الأَحْزَابِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُتَفَقِّينَ<sup>ط</sup>

اے نبی! ڈر اللہ سے اور کہانہ مان منکروں کا اور دغا بازوں کا۔

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

مقرر (بلاشبہ) اللہ ہے سب جانتا حکمتوں والا۔

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ<sup>ج</sup>

اور چل اسی پر جو حکم (وحی) آئے تجھ کو تیرے رب سے۔

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

مقرر (بیشک) اللہ تمہارے کام کی خبر رکھتا ہے۔

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا<sup>ج</sup>

اور بھروسہ رکھ اللہ پر۔ اور اللہ بس (کافی) ہے کام بنانے والا۔

.1

.2

.3

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ

اللہ نے رکھے نہیں کسی مرد کے دو دل اس کے اندر۔

وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ أَلَىٰ تُمْظُهُرُونَ مِّنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ

اور نہیں کیا تمہاری جوڑوں کو جن کو ماں کہہ بیٹھے ہو، سچ تمہاری مائیں۔

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ

اور نہیں کیا تمہارے لے پالکوں (منہ بولے) کو تمہارے بیٹے۔

ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ

یہ تمہاری بات ہے اپنے منہ کی (اپنا قول)۔

وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

اور اللہ کہتا ہے ٹھیک (حق) بات اور وہی سو جھاتا ہے راہ۔

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ

پکارو لے پالکوں کو ان کے باپ کا کر کر (کی نسبت سے)، یہی پورا انصاف ہے، اللہ کے ہاں۔

فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ

پھر اگر نہ جانتے ہو ان کے باپ کو تو تمہارے بھائی ہیں دین میں، اور رفیق ہیں۔

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ

اور گناہ نہیں تم پر جس چیز میں چوک جاؤ، پر وہ جو دل سے ارادہ کیا۔

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔

النَّبِيِّ أَوْلَىٰ بِأَلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ

نبی سے لگاؤ ہے ایمان والوں کو زیادہ اپنی جان سے، اور اُسکی عورتیں انکی مائیں ہیں۔

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ

اور ناتے والے (رشتے دار) ایک دوسرے سے لگاؤ رکھتے ہیں، اللہ کے حکم میں،

زیادہ سب ایمان والوں اور وطن چھوڑنے والوں سے،

إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَآئِكُمْ مَعْرُوفًا

مگر یہ کہ کیا چاہو اپنے رفیقوں سے احسان۔

كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

یہ ہے کتاب میں لکھا۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ

اور جب لیا ہم نے نبیوں سے ان کا قرار اور تجھ سے

وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ

اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ سے جو بیٹا مریم کا۔

وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

اور لیا ہم نے ان سے گاڑھا قرار (پختہ عہد)۔

لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ

تا کہ (کہ) پوچھے اللہ سچوں سے ان کا سچ۔

وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا

اور رکھی ہے منکروں کو دکھ کی مار۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ

اے ایمان والو! یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر، جب آئیں تم پر فوجیں،

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِم مَّرِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا

پھر بھیجی ہم نے ان پر باؤ (آندھی)، اور وہ فوجیں جو تم نے نہیں دیکھیں۔

وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

اور ہے اللہ جو کچھ کرتے ہو دیکھتا۔

إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ

جب آئے تم پر اوپر کی طرف سے اور نیچے سے،

وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونًا

اور جب ڈگنے لگیں (پتھر اگئیں) آنکھیں اور پہنچے دل گلے تک،

اور اٹکنے (گمان کرنے لگے) لگے تم اللہ پر کئی کئی اٹکلین (طرح طرح کے گمان)۔

هَذَا لِكَأَبْتُلِي الْمُؤْمِنُونَ وَزَلْزَلُوا زَلْزَلًا شَدِيدًا

وہاں جانچے گئے ایمان والے اور جھڑ جھڑائے گئے زور کا جھڑ جھڑانا۔

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ

اور جب کہنے لگے منافق اور جن کے دلوں میں روگ ہے،

مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا

جو وعدہ دیا تھا ہم کو اللہ نے اور اس کے رسول نے سب فریب تھا۔

وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَانْجِعُوا

اور جب کہنے لگے ایک لوگ ان میں، اے یثرب والو! تم کو ٹھکانا نہیں، سو پھر (لوٹ) چلو۔

وَيَسْتَعْذِرُونَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ

اور رخصت مانگنے لگے ایک لوگ ان میں نبی سے، کہنے لگے، ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں۔ اور وہ کھلے نہیں پڑے۔

إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا

غرض اور نہیں مگر بھاگنا۔

وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُلِوا أَلْفِتْنَةً لَأَتَوْهَا

اور اگر شہر میں کوئی پیڑھ (گھس) آئے کناروں سے، پھر ان سے چاہے دین سے بچلنا (گر اہی)، تو لے لیں،

وَمَا تَلَبَّثُوا فِيهَا إِلَّا يَسِيرًا

اور ڈھیل نہ کریں اس میں مگر تھوڑی۔

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهِدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُؤَلُّونَ الْأَدْبَرَ<sup>ج</sup>

اور اقرار کر چکے تھے اللہ سے آگے کہ نہ پھیریں گے پیٹھ۔

وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا

اور اللہ کے اقرار کی پوچھ ہونی ہے۔

قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ

تو کہہ، کام نہ آئے گا تم کو بھاگنا،

إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَأُمْتَحِنُونَكُمْ إِلَّا قَلِيلًا

اگر بھاگو گے مرنے (موت) سے یا مارے (قتل ہو) جانے سے اور پھر بھی پھل نہ پاؤ گے، مگر تھوڑے دنوں۔

قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً<sup>ج</sup>

تو کہہ، کون ہے تم کو بچائے اللہ سے اگر چاہے تم پر بُرائی یا چاہے تم پر مہر (مہربان ہونا)۔

وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

اور نہ پائیں گے اپنے واسطے اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہ مددگار۔

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا<sup>ط</sup>

اللہ کو معلوم ہیں جو اٹکاتے (رکاوٹیں ڈالتے) ہیں تم میں، اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو، چلے آؤ ہمارے پاس۔

وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا

اور لڑائی میں نہیں آتے مگر کبھی (کم)۔

## أَشْحَةً عَلَيْكُمْ<sup>ط</sup>

دریغ (حسرت) رکھتے ہیں تمہاری طرف سے،

فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ<sup>ط</sup>

پھر جب آئے ڈر کا وقت، تو تو دیکھے تکتے (دیکھتے) ہیں تیری طرف،

ڈگراتی (گھومتی) ہیں آنکھیں اُن کی، جیسے کسی پر آئے بیہوشی موت کی،

فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَفُوكُمْ بِالْسِّنَةِ حِدَادٍ أَشْحَةً عَلَى الْخَيْرِ<sup>ج</sup>

پھر جب جاتا رہے ڈر کا وقت، چڑھ چڑھ کر بولیں تم پر تیز تیز زبانوں سے، ڈھکے پڑتے (حریص) ہیں مال پر،

أُولَٰئِكَ لَمْ يُوْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ<sup>ج</sup>

وہ لوگ یقین نہیں لائے، پھر اکارت (ضائع) کر ڈالے اللہ نے اُن کے کئے (اعمال)۔

وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

اور یہ ہے اللہ پر آسان۔

يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا<sup>ط</sup>

جانتے ہیں، فوجیں (حملہ آور لشکر) نہیں گئیں۔

وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابَ يَوْدُوا أَلَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَاءِكُمْ<sup>ط</sup>

اور اگر آجائیں فوجیں (حملہ آور) تو آرزو کریں، کسی طرح باہر گئے ہوں گاؤں میں، پوچھا کریں تمہاری خبریں۔

وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا

اور اگر ہوں تم میں لڑائی نہ کریں مگر تھوڑے۔

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

تم کو بھلی تھی سیکھنی رسول کی چال،

لَمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

جو کوئی امید رکھتا ہے اللہ کی اور پچھلے دن کی اور یاد کرتا ہے اللہ کو بہت سا۔

وَالْمُتَّوِّعَاتِ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا

اور جب دیکھیں مسلمانوں نے فوجیں (دُشمن کا لشکر)، بولے،

هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

یہ وہی ہے جو وعدہ دیا تھا ہم کو اللہ نے اور اُس کے رسول نے، اور سچ کہا اللہ نے اور اس کے رسول نے،

وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا

اور ان کو اور بڑھا یقین اور اطاعت کرنا۔

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ

ایمان والوں میں کتنے مرد ہیں کہ سچ کر دکھایا جس پر قول کیا تھا اللہ سے۔

فَمِنْهُمْ مَن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ

پھر کوئی ہے ان میں کہ پورا کر چکا اپنا ذمہ، اور کوئی ہے ان میں راہ دیکھتا۔

وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا

اور بدلہ نہیں ایک ذرہ۔



لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ

تا (کہ) بدلہ دے اللہ سچوں کو ان کے سچ کا،

وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ إِنِ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ<sup>ج</sup>

اور عذاب کرے منافقوں کو اگر چاہے، یا توبہ ڈالے ان کے دل پر،

إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

بیشک اللہ ہے بخشتا مہربان۔

وَمَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا<sup>ج</sup>

اور پھیر (واپس بھیج) دیا اللہ نے منکروں کو، اپنے غصہ میں بھرے، ہاتھ نہ لگی کچھ بھلائی۔

وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ<sup>ج</sup>

اور آپ اٹھالی اللہ نے مسلمانوں کی لڑائی۔

وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا

اور ہے اللہ زور آور زبردست۔

وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ

اور اتار دیا ان کو جو ان کے رفیق ہوئے تھے کتاب والے، ان کی گڑھیوں (قلعوں) سے،

اور ڈالی ان کے دل میں دھاک،

فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا

کتنوں کو تم جان سے مارنے لگے، اور کتنوں کو بندی (قیدی) کیا۔

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَوَدِيرَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَّوْهَا<sup>ج</sup>

اور تم کو ملائی (وراثت کی) اُن کی زمین، اور اُن کے گھر، اور اُن کے مال،

اور ایک زمین جس پر نہیں پھیرے تم نے اپنے قدم،

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا

اور ہے اللہ سب چیز کر سکتا۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِلأَزْوَاجِ

اے نبی! کہہ دے اپنی عورتوں کو،

إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

اگر تم ہو چاہتیاں دنیا کا جینا اور یہاں کی رونق، تو آؤ کچھ فائدہ دوں تم کو اور رخصت کروں بھلی طرح سے۔

وَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ

اور اگر تم ہو چاہتیاں اللہ کو اور اس کے رسول کو اور پچھلے (آخرت کے) گھر کو،

فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا

تو اللہ نے رکھ چھوڑا ہے اُن کو جو تم میں نیکی پر ہیں نیک (اجر) بڑا۔

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ

اے نبی کی عورتو!

مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ يُضَعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ<sup>ج</sup>

جو کوئی کر لائے تم میں کام بے حیائی کا صریح، دُونی ہو اس کو مار دوہری۔

وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

اور ہے یہ اللہ پر آسان۔

وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتَاهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ

اور جو کوئی تم میں اطاعت کرے اللہ کی اور اسکے رسول کی، اور کرے کام نیک،

دیں ہم اُسکو اس کا نیک (اجر) دوبار،

وَأَعْتَدْنَا لَهُا رِزْقًا كَرِيمًا

اور رکھی ہے ہم نے اس کے واسطے روزی عزت کی۔

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لَسْتَنْ كَاٰحِدٍ مِّنَ النَّسَاۗءِ

اے نبی کی عورتو! تم نہیں ہو جیسے ہر کوئی عورتیں،

اِنَّ اَتَّقِيۡنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيۡ فِيۡ قَلْبِهٖۤ اٰمْرًا

اگر تم ڈر رکھو، سو تم دب کرنے کہوبات پھر لالچ کرے کوئی جس کے دل میں روگ ہے،

وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا

اور کہوبات معقول۔

وَقَرْنَ فِيۡ بُيُوۡتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاٰوٰلٰى

اور قرار پکڑو اپنے گھروں میں، اور دکھائی نہ پھرو جیسا دکھانا دستور تھا پہلے وقت نادانی کے۔

وَأَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَآتِينَ الزَّكٰوةَ وَأَطِعْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُۥ

اور کھڑی رکھو نماز، اور دیتی رہو زکوٰۃ، اور اطاعت میں رہو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيرًا

اللہ یہی چاہتا ہے، کہ دور کرے تم سے گندی باتیں، اس گھر والو، اور ستھرا کرے تم کو ایک ستھرائی سے۔

وَأذْكُرَنَّ مَا يَتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ

اور یاد کرو جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں اللہ کی باتیں اور عقلمندی۔

إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا

مقرر (بیشک) اللہ ہے بھید جانتا خبر دار۔

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

تحقیق مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں

وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ

اور بندگی کرنے والے مرد اور بندگی کرنے والی عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں

وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْحَشِيعِينَ وَالْحَشِيعَاتِ

اور محنت سہنے والے مرد اور محنت سہنے والی عورتیں اور دبے رہنے والے مرد اور دبے رہنے والی عورتیں

وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِعِينَ وَالصَّامِعَاتِ

اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں

وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظَاتِ

اور تھامنے والے مرد اپنی شہوت کی جگہ اور تھامنے والی عورتیں

وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ

اور یاد کرنے والے مرد اللہ کو بہت سا اور یاد کرنے والی عورتیں،

أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

رکھی ہے اللہ نے ان کے واسطے معافی اور نیک (اجر) بڑا۔

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذْ قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ<sup>ط</sup>

اور کام نہیں کسی ایماندار مرد کا نہ عورت کا، جب ٹھہرا دے اللہ اور اس کا رسول کچھ کام،

کہ ان کو رہے اختیار اپنے کام کا۔

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا

اور جو کوئی بے حکم چلا اللہ کے اور اس کے رسول کے، سو راہ بھولا صریح چوک۔

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ

اور جب تو کہنے لگا اس شخص کو جس پر اللہ نے احسان کیا، اور تو نے احسان کیا،

أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ

رہنے دے اپنے پاس اپنی جو رو (بیوی)، اور ڈر اللہ سے،

وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ

اور تو چھپاتا تھا اپنے دل میں ایک چیز، جو اللہ اس کو کھولا چاہتا ہے،

وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ<sup>ط</sup>

اور تو ڈرتا تھا لوگوں سے۔ اور اللہ سے زیادہ چاہیے ڈرنا تجھ کو،

.36

.37

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ

پھر جب زید تمام کر چکا اس عورت سے اپنی غرض، ہم نے وہ تیرے نکاح میں دی،

لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا

تا (کہ) نہ رہے سب مسلمانوں پر گناہ نکاح کر لینا جو روئیں (بیویاں) اپنے لے پالکوں (منہ بولے بیٹوں) کی،

جب وہ تمام کریں ان سے اپنی غرض۔

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

اور ہے اللہ کا حکم کرنا۔

مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ

نبی پر کچھ مضائقہ نہیں اس بات میں، جو ٹھہرا (فرض کر) دی اللہ نے اس کے واسطے۔

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ

دستور رہا ہے اللہ کا ان لوگوں (انبیاء) میں جو گزرے پہلے۔

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا

اور ہے حکم اللہ کا مقرر ٹھہر چکا (قطعاً طے شدہ)۔

الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ

وہ (انبیاء) جو پہنچاتے ہیں پیغام اللہ کے اور ڈرتے ہیں اس سے، اور نہیں ڈرتے کسی سے سوا اللہ کے۔

وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

اور بس (کافی) ہے اللہ کفایت (محاسب) کرنے والا۔

.38

.39

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ<sup>ط</sup>

محمدؐ باپ نہیں کسی کا تمہارے مردوں میں لیکن رسول ہے اللہ کا، اور مہر سب نبیوں پر (خاتم النبیین)۔

وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

اور ہے اللہ سب چیز جانتا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

اے ایمان والو! یاد کرو اللہ کو بہت سی یاد۔

وَسَبِّحْهُ بَكْرَةً وَأَصِيلًا

اور پاکی بولو (تسبیح کرو) اس کی صبح اور شام۔

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ<sup>ج</sup>

وہی ہے جو رحمت بھیجتا ہے تم پر، اور اسکے فرشتے (بھی تم پر دعاء رحمت بھیجتے ہیں)

کہ نکالے تم کو اندھیروں سے اُجالے میں۔

وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا

اور ہے ایمان والوں پر مہربان۔

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ<sup>ج</sup>

دُعا ان کی، جس دن اُس سے ملیں گے، سلام ہے۔

وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا

اور رکھا ہے ان کے واسطے نیک (اجر) عزت کا۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

اے نبی! ہم نے تجھ کو بھیجا بتانے والا اور خوشی سنانے والا، اور ڈرانے والا اور بلانے والا۔

وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ ۖ وَسِرَاجًا مُنِيرًا

اللہ کی طرف اس کے حکم سے اور چراغ چمکتا۔

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا

اور خوشی سنا ایمان والوں کو کہ ان کو ہے خدا کی طرف سے بڑی بزرگی۔

وَلَا تَطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعِ أَذْنَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

اور کہانہ مان منکروں کا اور دغا بازوں کا، اور چھوڑ دے ان کو ستانا، اور بھروسا کر اللہ پر۔

وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

اور اللہ بس (کافی) ہے کام بنانے والا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمْسُوهُنَّ

اے ایمان والو! جب تم نکاح کرو مسلمان عورتوں کو، پھر ان کو چھوڑو، پہلے اس سے کہ ہاتھ لگاؤ ان کو،

فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

سو ان پر حق نہیں تمہارا عدت میں بیٹھنا، کہ گنتی پوری کرواؤ۔

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَ حُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

سو دو ان کو کچھ فائدہ اور رخصت کرو بھلی طرح۔



يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ

اے نبی! ہم نے حلال رکھیں تجھ کو تمہاری عورتیں جنکے مہر تو دے چکا،

وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا آفَاءَ اللَّهِ عَلَيْكَ

اور جو مال ہو تیرے ہاتھ کا (لونڈیاں) اور جو ہاتھ لگا دے تجھ کو اللہ،

وَبَنَاتٍ عَمَّكَ وَبَنَاتٍ عَمَّتِكَ وَبَنَاتٍ خَالَكَ وَبَنَاتٍ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ

اور تیرے چچا کی بیٹیاں اور پھوپھیوں کی بیٹیاں، اور تیرے ماموں کی بیٹیاں، اور خالائوں کی بیٹیاں

جنہوں نے وطن چھوڑا (ہجرت کی) تیرے ساتھ،

وَأَمْرًا أَلْمُؤْمِنَاتِ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا

اور جو کوئی عورت ہو مسلمان، اگر بخشے (ہبہ کرے) اپنی جان نبی کو، اگر نبی چاہے کہ اسکو نکاح میں لے۔

خَالِصَةً لَّكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ<sup>ظ</sup>

(یہ رعایت) نری تجھی کو، سو اسب مسلمانوں کے۔

قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ<sup>ظ</sup>

ہم کو معلوم ہے، جو ٹھہرا دیا ہم نے ان پر ان کی عورتوں میں، اور ان کے ہاتھ کے مال (لونڈیوں) میں،

(تجھے اس سے مستثنیٰ کر دیا) تا (کہ) نہ رہے تجھ پر تنگی۔

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔

تُرْجَىٰ مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ وَهُوَ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ<sup>ط</sup>

(تجھ کو اختیار ہے) پیچھے (خود سے الگ) رکھ دے تو جسکو چاہے ان میں، اور جگہ دے اپنے پاس جس کو چاہے،

وَمَن أبتَغَيْتَ لهُنَّ عَزْلًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ<sup>ج</sup>

اور جس کو جی چاہے تیرا (پاس بلا لو) ان میں سے جو کنارے (الگ) کر دی تھیں، تو کچھ گناہ نہیں تجھ پر۔

ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَخْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَاءِ آتَيْنَهُنَّ كُلُّهُنَّ<sup>ج</sup>

اس میں لگتا ہے کہ ٹھنڈی رہیں آنکھیں انکی، اور غم نہ کھائیں اور راضی رہیں اس پر جو تونے دیا ساریاں (سب)۔

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ<sup>ج</sup>

اور اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔

وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا

اور ہے اللہ سب جانتا تحمل والا۔

لَّا يَحِلُّ لَكَ الذِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ

حلال نہیں تجھ کو عورتیں اس پیچھے، اور نہ یہ کہ ان کے بدلے اور کرے عورتیں،

وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ<sup>ط</sup>

اگرچہ خوشی (اچھی) لگے تجھ کو ان کی صورت، مگر جو مال ہو تیرے ہاتھ کا۔

وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّاقِبًا

اور ہے اللہ ہر چیز پر نگہبان۔

## يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا

اے ایمان والو!

لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرِ نَظِيرِ مَا فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ مِمَّنْ جَاءُوا فَغُورُوا فِيهَا وَمَا كَانَ كُنُوزُهُمْ غَالِيًا فَرِحُوا بِهَا طَعَامًا لَّيْسَ فِيهَا مِنْكُمْ حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ سَأَلْتُمُوهُنَّ لِمَ لَا يَأْكُلْنَ مِمَّا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِنَّ قُلْنَ إِنَّهُنَّ يَخْشَيْنَ الْفِتْنَةَ سِوَىٰ مَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِنَّ ذَلِكَ لِمَا عَصَيْنَا أَمْرًا رَبِّيًّا وَيَرْحِمْنَ مَا لِلرِّجَالِ لَا لِلنِّسَاءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا

لیکن جب بلائے تب جاؤ،

فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مَسْئَلِينَ لِلْحَدِيثِ

پھر جب کھا چکو، تو آپ آپ کو چلے جاؤ، اور نہ آپس میں جی لگاتے باتوں میں۔

إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذَىٰ النَّبِيَّ فَيَسْتَعِجِلُّ مِنَ الْفِتْنَةِ وَاللَّهُ لَا يَسْتَعِجِلُّ بِالَّذِينَ

اس بات سے تمہاری تکلیف تھی پیغمبر کو، پھر تم سے شرم کرتا، اور اللہ شرم نہیں کرتا ٹھیک بات بتانے میں۔

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَلُوهُنَّ مِمَّا فِي خُبْرَاتِكُمْ وَلَا تَسْأَلُوهُنَّ مِمَّا فِي كِبْرَاتِكُمْ

اور جب مانگنے جاؤ بیبیوں سے کچھ چیز کام کی، تو مانگ لو پردے کے باہر سے۔

ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

اس میں خوب ستھرائی ہے تمہارے دل کو، اور ان کے دل کو۔

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِرُوا آيَاتِهِ مِنْ بَعْدِهِ ۗ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ

اور تم کو نہیں پہنچتا کہ تکلیف دو اللہ کے رسول کو، اور نہ یہ کہ نکاح کرو اسکی عورتوں کو اسکے پیچھے کبھی۔

إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

البتہ یہ بات تمہاری اللہ کے ہاں بڑا گناہ ہے۔

.54

إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

اگر کھول کر کہو تم کسی چیز کو، یا اس کو چھپاؤ سو اللہ ہے ہر چیز جانتا۔

.55

لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيءِ آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ

گناہ نہیں ان عورتوں کو سامنے ہونے کا اپنے باپوں سے اور نہ اپنے بیٹوں سے،

وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءَ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَخَوَاتِهِنَّ

اور نہ اپنے بھائیوں سے اور نہ اپنے بھائی کے بیٹوں سے، اور نہ اپنے بہن کے بیٹوں سے،

وَلَا نِسَاءَ آبَائِهِمْ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ

اور نہ اپنی عورتوں سے، اور نہ اپنے ہاتھ کے مال سے،

وَأَتَّقِينَ اللَّهَ

اور ڈرتی رہو اللہ سے۔

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

بیشک اللہ کے سامنے ہے ہر چیز۔

.56

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ

اللہ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں رسول پر۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

اے ایمان والو! رحمت بھیجو اس پر، اور سلام بھیجو سلام کہہ کر۔

.57

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

جو لوگ ستاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، ان کو پھٹکار اللہ نے دنیا میں اور آخرت میں،

وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا

اور رکھی ہے ان کے واسطے ذلت کی مار۔

.58

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغْيٍ مَّا كُتِّسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

اور جو لوگ تہمت لگاتے ہیں مسلمان مردوں کو، اور مسلمان عورتوں کو، بن کئے کام،

تو اٹھایا انہوں نے بوجھ جھوٹ کا اور صریح گناہ کا۔

.59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبِيبِهِنَّ

اے نبی! کہہ دے اپنی عورتوں کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان عورتوں کو،

نیچی لٹکالیں اپنے اوپر تھوڑی سی اپنی چادریں۔

ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ

اس میں لگتا ہے کہ پہچانی پڑیں، تو کوئی نہ ستائے۔

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔

لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُتَفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ

کبھی باز نہ آئے منافق، اور جن کے دل میں روگ ہے، اور جھوٹ اڑانے والے مدینے میں،

تو ہم لگا دیں گے ان کے پیچھے،

ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا

پھر نہ رہنے پائیں گے تیرے ساتھ اس شہر میں مگر تھوڑے دنوں۔

ط

مَلْعُونِينَ

پھٹکارے ہوئے۔

أَيُّنَمَا تُقِفُوا أَخِذُوا وَقْتَهُ لِقَاتِي

جہاں پائے گئے پکڑے گئے اور مارے گئے جان سے۔

ط

سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ

دستور پڑا ہو اللہ کا، ان لوگوں میں جو آگے ہو چکے ہیں۔

وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

اور تو نہ دیکھے گا اللہ کی چال (سنت) بدلتی۔

ط

يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ

لوگ پوچھتے ہیں تجھ سے قیامت کو۔

ج

قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ

تو کہہ، اس کی خبر ہے اللہ ہی پاس۔

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا

اور تو کیا جانے، شاید وہ گھڑی پاس ہی ہو۔

.64

إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكٰفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا

بیشک اللہ نے پھٹکارا ہے منکروں کو، اور رکھی ہے ان کے واسطے دکھتی آگ۔

.65

خٰلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا

رہا کریں اس میں ہمیشہ۔

لَا يَجِدُونَ وِلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

نہ پائیں کوئی حمایتی نہ مددگار۔

.66

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ

جس دن اوندھے ڈالے اُن کے منہ آگ میں، کہیں گے،

يَلَيْتَنَّا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ

کسی طرح ہم نے کہا مانا ہوتا اللہ کا اور کہا مانا ہوتا رسول کا۔

.67

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَّرَاءَنَا فَأَضَلُّنَا السَّبِيلَ

اور کہیں گے اے رب! ہم نے کہا مانا اپنے سرداروں کا اپنے بڑوں کا، پھر انہوں نے چوکا (بھلا) دی ہم سے راہ۔

.68

رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمُ لَعْنًا كَبِيرًا

اے رب! ان کو دے دُونی مار اور پھٹکار اُن کو بڑی پھٹکار۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَادُوا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا

اے ایمان والو! تم مت ہو ویسے، جنہوں نے ستیا موسیٰ کو، پھر بے عیب دکھایا انکو اللہ نے اُنکے کہنے سے۔

وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا

اور تھا اللہ کے ہاں آبرور کھتا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

اے ایمان والو! ڈرتے رہو اللہ سے، اور کہو بات سیدھی۔

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

کہ سنو اردے تم کو تمہارے کام، اور بخشتے تم کو تمہارے گناہ۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

اور جو کوئی کہے پر چلا اللہ کے اور اُسکے رسول کے اس نے پائی بڑی مراد۔

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا

ہم نے دکھائی امانت آسمان کو، اور زمین کو اور پہاڑوں کو،

پھر سب نے قبول نہ کیا کہ اس کو اٹھائیں اور اس سے ڈر گئے،

وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ

اور اٹھالیا اس کو انسان نے۔

إِنَّهٗ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

یہ ہے بڑا بے ترس نادان۔



لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ

تا کہ) عذاب کرے اللہ منافق مردوں کو، اور عورتوں کو، اور شریک والے مردوں کو اور عورتوں کو،

وَيُثِيبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

اور معاف کرے اللہ ایماندار مردوں کو اور عورتوں کو۔

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان۔

\*\*\*\*\*

© Copy Rights:

Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana

Lahore, Pakistan

www.quran4u.com

Email:

quran4u\_com@yahoo.com